

**Maulana Azad National Urdu University  
B.Sc. (ZBC/MPC) I Semester Examination - December - 2018**

**BSCH101CCT - Conceptual Organic Chemistry**

**Regular / Backlog**

**Time : 3 hrs**

**Marks : 70**

**ہدایات:**

یہ پرچم والات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 50 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 10 سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 06 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

**حصہ - اول**

**سوال نمبر 1**

- (i) ایک ایسے مولیکول کی مثال دیجیے جس میں کاربیل سینٹر موجود ہو۔
- (ii) استھنیول اور ڈائی میتھا نائل ایتھرس کس آئیو میرزام کی مثال ہے۔
- (iii) Angle of Rotation کونا پنے کے لیے کس آر (Instrument) کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- (iv) نیکلیوفنائیل کی تعریف بیان کیجیے۔
- (v) ایک فری ریڈیکل سسٹیو ٹیوشن ریاکشن کی مثال دیجیے۔
- (vi) ایک الیکٹرود فائیل کی مثال دیجیے۔
- (vii) ایک تحریلی عامل (Reducing agent) کی مثال دیجیے۔
- (viii) ڈی ہائیڈریشن ریاکشن کی ایک مثال دیجیے۔
- (ix) تالن عامل (Tollen reagent) کیا ہے۔
- (x) فری ڈل کرافٹ ریاکسن کی ایک مثال دیجیے۔

## حصہ - دو

ڈائیا اسٹریو مرس (Diasteromers) اور انٹنیشیو مرس (Enantiomers) کی خصوصیات مثال دے کر بیان کیجیے۔ 2




مندرجہ ذیل کی تعریف بیان کیجیے: 3

Achiral Molecule (iii)	Chiral Molecule (ii)	Asymmetric Carbon Atom (i)
	Specific Rotation (v)	Mesoform (iv)

الیکٹرونیک سسیٹیوشن ریاکشن کیا ہے۔ بیزین کے نیٹریشن کی میکانزم کو بیان کیجیے۔ 4

اسیٹینیشن ریاکشن کیا ہے۔ سیٹ زاف کلیئر کوڈی ہائیڈرو ہیلو چینشن کی مثال دے کر بیان کیجیے۔ 5


مندرجہ ذیل مرکبات کے جوڑو میں کیسے فرق کریں گے۔ ایک جانچ کو مساوات دے کر بیان کیجیے۔ 6



مندرجہ ذیل عامل (Reagent) کا استعمال ایک ایک مساوات دے کر بیان کیجیے۔ 7

$Sn / HCl$  (v)       $NaBH_4$  (iv)       $HI / red P$  (iii)      PCC (ii)       $KMnO_4$  (i)

مندرجہ ذیل مرکبات کے IUPAC نام لکھئے۔ 8



مارکونیکاف اور انٹنی مارکونیکاف کلیئر کا ایک ایک مثال دے کر بیان کیجیے۔ 9

## حصہ - سوم

آیوسیمرزم کی تعریف بیان کیجیے۔ اس کی درجہ بندی کر کے آپنیکل آیوسیمرزم یا ساختی آیوسیمرزم کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ 10

مندرجہ ذیل ریاکشن کی ایک ایک مثال دے کر تفصیل سے بیان کیجیے۔

11

- (i) الڈول ریاکشن      (ii) گیمینشن ریاکشن      (iii) کینیز ارور ریاکشن  
(iv) آیوڈوفارم ریاکشن      (v) روزمنڈ ریاکشن

نیوکلیو فیسک سسٹیوشن ریاکشن کیا ہے اس کو 3 مثال دے کر بیان کیجیے اور  $SN^1$  اور  $SN^2$  کی میکانیزم بیان کیجیے۔

12

اڈیشن ریاکشن کی تعریف بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل ریاکشن کی ایک ایک مثال دیجیے۔

13

- (i) ہائیڈرو جینشن ریاکشن      (ii) ہیلو جینشن ریاکشن  
(iii) ہائیڈریشن ریاکشن      (iv) ہائیڈرو ہیلو جینشن ریاکشن

مندرجہ ذیل مرکبات کی ساخت (Structure) بنائیے۔

14

- (i) ناکڑو بینزین      (ii) ایسیٹون      (iii) 2-چینٹینان      (iv) 2-برومو بیوٹین  
(v) استھانو نیک ایسٹ      (vi) چینٹیل      (vii) استھا نیل میٹھا نیل ایٹھر  
(viii) 3-ہائیڈر اکسی بیگڑ نیل      (ix) نیو پینٹین      (x) سینٹر ری بیوٹا نیل کلور ایٹل

☆☆☆